



سوال

(432) عقدہ بجا قبول کرنے والے میاں بیوی کے رخصتی سے پہلے ایک دوسرے کو ملنے کے آداب

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرے اور میرے خاوند کے جس نے مجھ سے عقدہ بجا قبول کیا (مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی) خلوت اختیار کرنے، میرے اس کے ساتھ علم اور تفریح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے شرعی آداب کیا ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر آپ کا ولی اجازت دے اور پھر وہ آپ کے پاس آئے تو جائز ہے۔ کیونکہ آپ ہر لحاظ سے اس کی بیوی ہیں، وہ آپ سے خلوت کر سکتا ہے کیونکہ آپ اس کی زوجہ ہیں لیکن اگر ولی نے یہ شرط لگائی ہو کہ وہ آپ سے خلوت نہ کرے۔ جب تک ان امور کا جائزہ نہ لے لیا جائے، مثلاً: اس کا گھر، جمیز اور جو اس کے ذمہ ہے، پس ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے ولی کو حق حاصل ہو گا کہ وہ اس کو آپ سے خلوت اختیار کرنے سے روکے کیونکہ چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مذہب میں خلوت دخول کے مترادف ہے۔ (محمد بن عبدالمقصود)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 372

محدث فتویٰ